

## کووڈ 19. ویکسین

شفہاؤزن کے رہنے والے خواتین و حضرات

آپ اپنی ویکسینیشن ضرور کروائیں۔ اس طرح آپ خود کو اور اپنے گھر والوں کو ایک خطرناک بیماری سے بچا سکتے ہیں

کرونا کی وبا سوئٹزرلینڈ میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور بہت سے لوگ اس سے بیمار ہو رہے ہیں بعض لوگ تو شدید بیمار ہو جاتے ہیں خوش قسمتی سے ہمارے پاس ویکسین ہے جو ہماری حفاظت کر سکتی ہے۔ اس ویکسین کے دو ٹیکے چار ہفتوں کے وقفے سے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس وائرس کی نئی قسم یعنی ڈیلٹا سے بھی بچاؤ ممکن ہے۔

یہ ویکسین قابل برداشت ہے۔ اس کے ذمئی اور وقتی اثرات (ٹیکے کی جگہ پر درد، سردرد اور بخار) عام طور پر مختصر سے وقت کے لئے ہوتے ہیں۔ یہ وقتی تکلیف کرونا میں مبتلا ہونے کی تکلیف سے بہت کم ہے اس ویکسین کے لگنے سے پیدا ہونے والے کسی بھی قسم کے کوئی دیرپا اثرات سامنے نہیں آئے اور نہ ہی ایسا ہونے کی توقع ہے۔

ہم سب اس وبا سے چھٹکارا حاصل کر کے ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں ویکسینیشن کی ضرورت ہے۔

### ویکسین مفت ہے۔

ویکسین کا سرٹیفکیٹ غیر ملک میں سفر کو آسان بناتا ہے اور بہت سی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینے کے راستے کھول دیتا ہے۔

ہم اپنے شارلوتنفلز میں موجود ویکسینیشن سینٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویکسینیشن کروانا بہت آسان ہے۔ آپ وقت لے کر یا وقت لئے بغیر بھی ویکسینیشن کروانے کیلئے تشریف لا سکتے ہیں۔

نیک خواہشات کے ساتھ

### آپکی کووڈ 19. ویکسینیشن ٹیم

#### میں ویکسینیشن کیسے کرواؤں

برائے مہربانی اپنا شناختی کارڈ اور ہیلتھ انشورنس کارڈ ساتھ لے کر آئیے

واک ان ویکسینیشن: بغیر اپاؤنٹمنٹ کے ویکسینیشن کروانے کے اوقات

سوموار 17-20 بجے تک

منگل 17-20 بجے تک

جمعہ 14-20 بجے تک

ہفتہ 9-13 بجے تک

اپاؤنٹمنٹ کے لیے ٹیلیفون نمبر 0526326557

آپ ویب سائٹ پر اپنی پہلی اور دوسری ویکسین کے لئے دن اور وقت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

[www.sh.ch|corona](http://www.sh.ch|corona)

گو کہ ویکسین بیماری سے بچاتی ہے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تاکید کردہ صحت و صفائی کے اصولوں کی بھرپور پابندی کی جائے۔